

# India's Fourth Universal Periodic Review in Geneva

November 09, 2022

## جنیوا میں ہندوستان کا چوتھا عالمی میعادى جائزہ

09 نومبر، 2022

یونیورسل پیریڈک ریویو (یو پی آر) ورکنگ گروپ کا 41واں اجلاس 7 سے 18 نومبر 2022 تک جنیوا میں اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق (یو این ایچ سی آر) میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس سیشن کے دوران، 10 نومبر 2022 کو چوتھے یو پی آر دورانیہ کے لئے ہندوستان کی قومی رپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا۔

2. جناب تشار مہتا، ایل ڈی۔ سالیسٹر جنرل آف انڈیا، ہندوستانی وفد کی قیادت کر رہے ہیں جس میں جناب سنجے ورما، سکریٹری (مغرب)، جناب اندرا منی پانڈے، ہندوستان کے مستقل نمائندے، مسٹر کے ایم۔ نٹراج، ایل ڈی ہندوستان کے ایڈیشنل سالیسٹر جنرل اور وزارت خارجہ، وزارت داخلہ، وزارت برائے خواتین اور اطفال ترقی، سماجی انصاف اور باختیار بنانے کی وزارت، اقلیتی امور کی وزارت، دیہی ترقی کی وزارت، اور نیتی آئیوگ کے سینئر حکام، اور نیشنل لاء یونیورسٹی، دہلی کے وائس چانسلر شامل ہیں >

3. ہندوستان انسانی حقوق کے عالمی فروغ اور تحفظ میں ایک فعال رول ادا کرتا ہے۔ پوری انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہماری مضبوط وابستگی، 'واسودھانیو کٹمبکم' یا "دنیا ایک خاندان ہے" کے تہذیبی اخلاق سے متاثر، ایک ایسی بنیاد فراہم کرتی ہے جس پر انسانی حقوق کے لئے ہمارا آئینی اور قانونی ڈھانچہ تعمیر کیا گیا ہے۔

4. ہندوستان عالمی سطح پر انسانی حقوق کو فروغ دینے اور ان کے تحفظ کے لیے یو این ایچ آر سی کے اراکین اور اقوام متحدہ کے دیگر ساتھی رکن ممالک کے ساتھ تعمیری طور پر مصروف عمل ہے۔ ہم نے مختلف اسٹیک ہولڈرز کے درمیان بات چیت، ذمہ داری اور تعاون پر زور دیا ہے۔ ہم نے انسانی حقوق کی ذمہ داریوں کی تکمیل میں ریاستوں کی اولین حیثیت پر زور دیا ہے۔ ہم نے کونسل کے ایجنڈے میں شامل مختلف امور پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے اور ہم نے تعمیری انداز میں کونسل میں ہونے والی بات چیت میں شرکت کی ہے۔

5. یو پی آر ایک اہم طریقہ کار ہے جس کی ہندوستان مکمل حمایت کرتا ہے۔ یہ انسانی حقوق کونسل کا ایک منفرد مساوی جائزہ عمل ہے جس کے تحت اقوام متحدہ کے رکن ممالک ساتھی رکن ممالک کی انسانی حقوق کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ انسانی حقوق کے، اپنے آفاقی کردار، تعمیری اور مشاورتی انداز، اور رکن ممالک کے درمیان بات چیت اور تعاون کو اہمیت دینے کی وجہ سے کامیاب ترین میکانزم کے طور پر ابھرا ہے۔ یو پی آر میکانزم ریاستوں کی انسانی حقوق کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے اور ان کی تکمیل میں مرکزیت کو بھی تقویت دیتا ہے۔ ہندوستان نے دیگر ریاستوں کے جائزے میں فعال طور پر حصہ لیا ہے اور ہم بدلے میں ان 131 رکن ریاستوں کا خیر مقدم کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے مساری جائزہ میں شامل ہونے کے لئے رجسٹریشن کرایا ہے۔ زیر جائزہ ریاستوں کو موصول ہونے والی تمام یو پی آر سفارشات پر ان کی حمایت یا نوٹ کر کے پوزیشن لینا ہوگی۔ ہماری یو پی آر نتائج کی رپورٹ کو مارچ 2023 میں کونسل برائے انسانی حقوق کے 52 ویں اجلاس میں اختیار کیا جائے گا۔

6. ہندوستان کی قومی رپورٹ، جو 5 اگست 2022 کو پیش کی گئی ہے، انسانی حقوق کے فروغ اور تحفظ کے لیے ہمارے اقدامات کا خاکہ، بشمول 2017 میں ہندوستان کے تیسرے یو پی آر دورانیہ میں ہماری طرف سے

قبول کردہ سفارشات پر عمل درآمد کو واضح کرتی ہے۔ ہندوستان کی رپورٹ نیشنل لاء یونیورسٹی، دہلی کے تعاون سے مختلف اسٹیک ہولڈرز، عدلیہ، انسانی حقوق کے قومی ادارے، اکیڈمی، سول سوسائٹی کی تنظیموں اور عام لوگوں کے نمائندوں کے ساتھ مشاورت کے ایک سلسلے کے بعد تیار کی گئی ہے۔

نئی دہلی

09 نومبر، 2022

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.